

COVID-19 ہو جانے کی صورت میں ووٹ دینے کا طریقہ

BE COVIDSAFE

اگر آپ کے COVID-19 ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہے اور آپ الیکشن والے دن آئسولیشن میں ہوں گے تو آپ ہفتہ 21 مئی کو 2022 کے فیڈرل الیکشن میں پولنگ کے مقام پر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔

فون ووٹنگ جمعرات 19 مئی سے ہفتہ 21 مئی تک ان لوگوں کے لیے دستیاب ہو گی جن کا جمعہ 13 مئی کو مقامی وقت کے مطابق شام 6.00 بجے کے بعد COVID-19 ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔

اگر آپ علامات نہ رکھنے والے قریبی کاتھیکٹ ہیں اور آپ کے لیے آئسولیشن ضروری نہیں ہے تو آپ اب بھی پولنگ کے مقام پر ذاتی طور پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

بذریعہ فون ووٹ دینے کا طریقہ

1 رجسٹر کریں

- COVID-19 ہونے کا ثبوت تیار کریں۔ ثبوت یہ ہونا چاہیے:
 - اگر PCR ٹیسٹ تھا - ٹیسٹنگ سنٹر کا پتہ، آپ کے مثبت ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت اور آپ کی ہیلتھ اتھارٹی سے ملنے والا ریفرنس نمبر (اگر یہ دستیاب ہو تو)
 - اگر RAT (ریپڈ اینٹیجین ٹیسٹ) تھا - برانڈ اور سیریل نمبر (اگر یہ دستیاب ہو تو)، آپ کے مثبت ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت، اور اس ہیلتھ اتھارٹی سے ملنے والا ریفرنس نمبر جس کے پاس آپ نے اپنا مثبت نتیجہ رجسٹر کیا تھا اور RAT کا برانڈ نمبر اور سیریل نمبر (اگر یہ دستیاب ہو تو)

- 1800 413 960 پر کال کریں اور رجسٹر کرنے کے لیے آپشن 1 چنیں۔ آپ اپنی زبان بولنے والا انٹریپرٹ (مترجم) مانگ سکتے ہیں۔ اپنا ثبوت تیار رکھیں کیونکہ کال کے دوران آپ سے یہ اقرار کرنے کو کہا جائے گا کہ آپ COVID-19 میں مبتلا ہیں اور آئسولیشن میں ہیں اور اس وجہ سے پولنگ کے مقام پر نہیں آ سکتے۔

- آپ کو آٹھ ہندسوں پر مشتمل ووٹنگ رجسٹریشن نمبر اور آپ کا چھ ہندسوں کا سیکور PIN بذریعہ ایس ایم ایس یا ای میل بھیجا جائے گا۔ آپ کو ووٹ ڈالتے ہوئے یہ استعمال کرنا ہو گا۔

2 ووٹنگ

- ممکن ہے کہ فون پر آپ کو دیر تک انتظار کرنا پڑے۔
- ایس ایم ایس یا ای میل پر ملنے والے لنک پر جا کر اپنے الیکٹورل ڈویژن کے بیلٹ پیپرز کی تصویر دیکھیں۔
- اپنا آٹھ ہندسوں کا رجسٹریشن نمبر، PIN اور ووٹنگ کے لیے ترجیحات تیار رکھیں۔
- 1800 413 960 پر کال کریں اور ووٹ دینے کے لیے آپشن 2 چنیں۔ آپ اپنی زبان بولنے والا انٹریپرٹ مانگ سکتے ہیں۔ آپریٹر آپ سے کہے گا کہ:
 - آپ دوبارہ اپنی بذریعہ فون ووٹ دینے کی اہلیت کا اقرار کریں
 - اپنا آٹھ ہندسوں کا رجسٹریشن نمبر اور چھ ہندسوں کا سیکور PIN بتائیں (اپنا نام یا پتہ نہ بتائیں - اس طرح آپ کے ووٹ کا راز میں رہنا یقینی ہوتا ہے)
 - یہ تصدیق کریں کہ آپ کے بیلٹ پیپرز کی تصویر آپ کے سامنے ہے
 - بیان کریں کہ آپ آپریٹر سے اپنا ووٹ کیسے ریکارڈ کروانا چاہیں گے
 - کال ختم کرنے سے پہلے تصدیق کریں کہ آپ اسی طرح ووٹ دینا چاہتے ہیں۔

سروس کی دستیابی کے اوقات

آن لائن رجسٹریشن

شام 6.01 بجے، آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائمز کے مطابق	بدھ 18 مئی	آغاز
شام 4.00 بجے، آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائمز کے مطابق	ہفتہ 21 مئی	اختتام

فون رجسٹریشن

صبح 8.30 بجے سے شام 5.30 بجے، مقامی وقت کے مطابق	جمعرات 19 مئی
صبح 8.30 بجے سے شام 5.30 بجے، مقامی وقت کے مطابق	جمعہ 20 مئی
صبح 8.00 بجے سے شام 4.00 بجے، مقامی وقت کے مطابق	ہفتہ 21 مئی

فون ووٹنگ

صبح 8.30 بجے سے شام 5.30 بجے، مقامی وقت کے مطابق	جمعرات 19 مئی
صبح 8.30 بجے سے شام 6.00 بجے، مقامی وقت کے مطابق	جمعہ 20 مئی
صبح 8.00 بجے سے شام 6.00 بجے، مقامی وقت کے مطابق	ہفتہ 21 مئی

اگر آپ نے رجسٹر کیا ہو اور ہفتہ 21 مئی کو شام 6.00 بجے پولنگ کے اختتام کے وقت آپ لائن پر انتظار کر رہے ہوں تو بھی آپ اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔

آپ کا ووٹ محفوظ ہے

فون ووٹنگ کو دھاندلی سے محفوظ رکھنے کے طریقے بھی وہی ہیں جو آسٹریلین الیکٹورل کمیشن پولنگ کے مقام پر استعمال کرتا ہے اور جو الیکٹورل ایکٹ کے مطابق ہیں۔